

43. AL-ZUKHRUF (PRIASAN)

Suet ke-43: 89 ayat

Ngen madeak gen Allah da Paling memu-ak
kulo paling Penyayang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Ha mim. حَم ۝١
2. Demi kiteb (Al Quran) gi jelas. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢
3. Keme jemijei Al Quran lem baso Arab supayo ko ngetai. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٣
4. Ngen benien ne Al Quran o lem Ummul Kiteb (lauh mahfuz) nak esea keme, benea-benea (benilai) lekat ngen penua hikmah. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ۝٤
5. Mako cano kah keme lok badan temuun ayat-ayat (sebagai peringatan) Al Quran ngen nu kerno ko kaum gi kliwet batas. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝٥
6. Ngen kedau nebai-nebai gi sudo keme mutus ngen umat-umat gi dute. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝٦
7. Ngen tip kilai do nebai teko ngen udi, udi slalu mookh ne. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝٧
8. Karno o keme benaso kan tun-tun gi lebea lai kekuatan nak antaro udi ngen gi sudo-sudo contoh umat-umat gi dute. فَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝٨
9. Ngen kalau ko temanye ngen udi. Api ba gi cemito lenget ngen bumai? Pastiba udi lok jemawab, kutene gi cemito undie gi maha perkasa, maha namen. وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝٩
10. Gi jemijai bumai penan tetep bagi nu ngen jemijai dalen-dalen nak das bumai الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ

untukno supayo ko dapet petunjuk.

11. Ngen gi temuun bio undie temurat kadar (gi perlu) lajau keme midupne ngen bio o negerai gi matei awei o ba udo lok kemelue (undie lem kubua)

12. Ngen gi cipta kute gi berpasang-pasang ngen jemijai utuknu kepea ngen benatang ternok gi ko temigang.

13. Supayo udi temot nak das kedong ne sudo o udi tinget nikmat Tuhan nu cano udi sudo temot nak das ne ngen supayo udi madeak; maha suci Tuhan gi sudo temunduk kute ne do o bagei keme padahal keme sebelum ne coa mampu kemuaso ne.

14. Ngen sebeneane keme lok belek ngen Tuhan keme.

15. Ngen to bo'o pao undin hamba-hamba ne sebagai bagian undin ne,sebeneane manusio o benea-benea muker gi nyato (ngen rahmat Tuhan).

16. Cano patut si mok anak selawei undie gi cipto ne ngen si kemusus utuk undi anak semanei.

17. Padahal apobilo salea suang nak antaro , undi nelie kabar riang ngen cano gi jijai misal Allah gi maha pemurah jijai ba mukone meleo pekat sedang si temaen duko.

18. Ngen cano patut (jemijai aok Allah) tun gi si melai perhiasan sedang si coa dapet melel alasan gi tenang lem betikea.

19. ngen udi jemijai mtikat-mtikat gi udii oadeba hamba-hamba Allah gi maha pemurah sbagai tun-tun selawei cano kah

فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١١﴾

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا

بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ﴿١٢﴾

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ

وَاللَّاتَعْمِرِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿١٣﴾

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ

إِذَا أَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ

لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٤﴾

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٥﴾

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ

لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٧﴾

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ

وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٨﴾

أَوْ مَن يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ

مُّبِينٌ ﴿١٩﴾

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ۚ

udi saksi penciptaan mlikat-mlikat o? Be lok tehulis kesaksian cano udi lokte magia pertanggungjawaban.

أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

﴿١٨﴾

20. Ngen udi madeak; jikalau Allah maha pemurah kemlok tentu keme coa sebeah udi (mlikat) udi coa temuan pengetahuan didik tentang o, udi coa luyen adeba demugo-demigo balaka.

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٩﴾

21. Atau ade coa keme melie do kitab ngen udi sbelum Al Quran, lajau udi berpegang ngen kitab o?

أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ

مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢٠﴾

22. Bahkan udi madeak: sebeneane keme dapet bak-bakk keme menganut suatu agama, ngen sebeneane keme tun-tun gi dapet petunjuk ngen (moi) pelat udi.

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ

ءَاثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

23. Ngen weoba keme ati meloak tun ayak udi dikup tun melie peringatan lem suatu negrei, seluyen tun-tun gik idup senang nak negrei o madeak sesungguhne keme temeu bapak-bapak keme menganut suatu agama ngen sesungguhe keme adalah milau lakeak-lakeak let o.

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ

إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا

عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

24. (Rasul do'o) madeak "jano gen (udi lak temongoa si kulo) sekilei uku mbien utuk ne (agama) gik lebeak (nyata) melie petunjuk kunai o jano gik udi temeu bapak-bapak nu menganut ne? Let o jenawab," sesungguhne mengingkari agama dik udi nutus utuk senapian.

﴿ قُلْ أُولَٰئِكَ جِئْتُمْكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ

ءَابَاءَكُمْ ۗ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٣﴾

25. Mako keme binasakan tebo'o make pratikan ba weipe akhir tun-tun gik mengike o.

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۗ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

26. Ngen inget ba ketiko Ibrahim madeak magea bapak ne ngen kaumne "sebeneahne uku coa lak temanggung magea jano gik udi senembeak.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا

تَعْبُدُونَ ﴿٢٥﴾

27. Tapi (uku nyembeak) Tuhan dinjjeikan

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي ﴿٢٦﴾

kerno sebeneane si lak hidayah ngen uku.

28. Ngen (ibrahim) njjeikan klimat tauhid o klimat gik kekal keturunan ne supayo tebo'o belek ngen klimat tauhid
- وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
29. Tapi uku sudo Melie kenikmatan idup ngen let bapak-bapak tebo'o singo tekoba ngen let o kebenean (Al Quran) ngen dikup Rasul, melie penjelasan.
- بَلْ مَتَّعْتُ هَتُولَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾
30. Ngen ketiko benea-benea Al Qur'an o teko magea let o, let o madeak," dio adeba sihir ngen sebeneane keme adeba tun-tun gik muker (nike).
- وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾
31. Ngen let o madeak "bene Al Qur'an o coa temi'un magea tun lei kunai saleak do duei negrei (mekeak nhen taif o).
- وَقَالُوا لَوْلَا نُنَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾
32. Jano let o gik mageak-mageak rahmat Tuhan udi?keme sudo temteu antara let o tentang idup let o lam idup nak dunio, ngen keme sudo meleketkan bagai let o das bagei gik layen deu-deu derajat, supayo bagei let o rahmat Tuahn udi lebeak baik kunai jano let o temokoa.
- أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾
33. Ngen sikirone coa karno la pa'ak manusio jizei umat gik do (lem kapea) tentune keme manea bagai tun-tun gik kapea magea Tuhan gik maha pemueak loteng-loteng perak bageak umeak let o, ngen kulo nda-nda perak gik let o kemnekne
- وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾
34. Ngen keme manea kulo, bang-bang perak bagie umeak-umeak, let o ngen (weo kulo) dipan-dipan gik let o bertelekan na dasne
- وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿٣٤﴾
35. Ngen (keme menea kulo) perhiasan-perhiasan (kunai emas utuk let o) ngen ketene do'o coa leyen adeba kesenangan kehidupan ne nak dunio, ngen idupne nak
- وَزُخْرَفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

akhirat o nak sisi Tuhan nu adeba tun-tun bertaqwa.

36. Barang api di icak-icak buto (mengelak) di ninget Tuhan (Qur'an) keme mbo setan utuk ne, mako setan o be jiji kuat ne. وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾
37. Sebetoane setan-setan o berusaha madang tobo o kunei dalen agama tapi tobo o ken kiro so dapet petunjuk. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾
38. Sehingga tengen si teko magea keme (bilei kiamat) si madeak (magea setan-setan o) se kiro ne jarak antaro uku ngen ko awei timur ngen barat, mako ko ba paling kidek kuat. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾
39. Coa ade guno (menyesoa) bagei nu pado biki o, waktu o nyato ko sio-sio betoa ko besatu lem siksaan. وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾
40. Dapet coa ko (Ya Muhammad) melie tumengao Qur'an) magea tun ddi pekak (bisu) atau temunjuk tun dibuto ngen tun dinyato-nyato seset. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾
41. Kaleu kune cemabut nyabei nu (Ya Muhammad) mako sebeneane keme seniekso tobo'o. فَأِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾
42. Ateu kune keanten mageako (sikso) dijena nyei keme magea tobo o Mako betoa kene lebeak kuaso kunei ne. أَوْ نُزَيِّنَّاكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾
43. Mako be pegang ba ko magea (jano-jano) di senapei ko, benea konak das dalem gi luus. فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾
44. Sebenea ne di senapei ojjei ke mulyaan bagei nu dan bagei kaum nu dan kedo udi baka ne perikso (tentang hal o). وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾
45. Tanyeba madea tun (rasul) de bi nebo kemese ayak nak antaro Rasul-rasul keme, ade coakeme made kedeu Tuhan di tobo'o semmeak seleyen kunie rahman. وَسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

46. Sebeneane keme bi nurtus Musa ngen ayat-ayat (mukjizat) keme magea Fir'aun ngen pembesar-pembesar ne, mako nadeak ne sebeneane uku rasul (utusan) Tuhan semesta alam.
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَإِيهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾
47. Mano kalo siteko magea tobo'o, mien ayat-ayat keme'o tibo-tibo tobo'o tawei-tawei kemeleak ne.
- فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾
48. Tiep-tiep ayat (mukjizat) di keme melie namen magea tobo'o adeba lebeak loe (hebat) kunei ayat sebelum ne, dan keme melie tobo'o sikso, mudah-mudahan tobo'o belek (betobat).
- وَمَا نُزِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
49. Tobo'o madeak: Hai tukang sihir (Musa) cubo kunai utuek keme mgea Tuhan nu, ngan jano di bi nyei ne ngen ko (meliputi sikso kune yo) sebetoa ne keme temimo petunjuk.
- وَقَالُوا يَتَّيِّئُ السَّاحِرُ ادَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
50. Mano kalo keme melaput siksaan'o kunei tobo'o tibo-tibo tobo'o muker (janyei).
- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٥٠﴾
51. Fir'aun semapei magea kaum ne, nadeak ne, hai kaumku kan uku temuan kerajaan mesir dan biyoa yo mengaloa nak beak ne, jano coa udi kemeleak.
- وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي
مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾
52. Bahkan uku lebeak baik kunai (tun) dihino yo (Musa) sedang kan kecek ne bae kuang jelas.
- أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ
يُبِينُ ﴿٥٢﴾
53. Benesi coa ke nalung bae utuk ne gelang tangea kunci masatau malaikat teko utuk ke muat si.
- فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
الْمَلَكُ الْمُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾
54. Trus fir'aun mbodong (semsee) kaum ne, terus mereka kudo temotoa benea-benea tobo'o kaum di pasik.
- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾
55. ketiko tobo'o mengeak keme, trus keme smikso dan keme meneem tobo'o kete ne
- فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

- أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾
56. Trus keme mena tobo'o sebagai I'tibar dan contoh bagei tun-tun di sudo yo. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾
57. Ketiko jenyei anak maryam sebagai contoh (senemeak tun nasni) mako kaum nu ribut (temengo'a ne). * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾
58. Tobo'o madeak ade coa Tuhan-setuhan keme dilebeak baik atau si (Isa) tobo'o coa ade senrei ne megea ko, seleyen utuk mbantah, bahkan tobo'o kaum di galak mbantah. وَقَالُوا ءِآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾
59. Dio (Isa) coa leyen hanya (tun) atau hamba di keme mlie nikmat (Paket nibei) magea si dan keme meneasi sebagai contoh di ajaib bagei bani Israil. إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾
60. Kalau keme kemliek niscayo keme made gitie nu malaikat-malaikat nak muko bumei di baka gemilei ko. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ ﴿٦٠﴾
61. Benea-benea Isa'o melie namen bilei kiamat sebab o dang udi rageu-rageu tentang o dan toboa ba uku dio ba dalen gi luus. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
62. Jibeak ba udi terpengaruh magea setan, sebetoa ne si ' mosoak di nyato bagei te. وَلَا يَصِدُّنَكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾
63. Ketiko Isa teko ngen mien keterangan-keterangan (ayat-ayat) so madeak sebetoane uku teko magea ko, dengan (mien) hikmah (ilmeu) dan supayo uku teni'ang ngen ko sebagian jano di ko coa sependapat, mako saben bako magea Tuhan dan toto'a ba uku. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ ﴿٦٣﴾
64. Sebeneane Allah dioba Tuhan ku ngen Tuhan udi, mako smeak basi dio adeba dalen gi luus. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
65. Mako kuang akur ba kelompok-kelompok gi dapet nak antaro let o, terus clako gi فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۗ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ﴿٦٥﴾

- coiba bagai tun-tun zalim adeba sikso bilei pelgeak (kiamat). ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾
66. Let'o coa mbot kecuali teko bilei kiamat magea let'o ngen tibo-tibo gidong let'o coa tinget si. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾
67. Kwat-kwat akrab padobilei, o. Pao ne jijej mosoak bigei ipao gi leyen kecuali tun-tun gi bertaqwa. Kebahagiaaan inraso oleh pendduduk surgo ngen kesengsaroan gi nidep oleh penduduk nrako. الْآخِلَاءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾
68. Hoi hamba-hamba ku coa de dulai nak adep nu pado bilai yo ngen coa kulo udi ibo atie. يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخَزُنُونَ ﴿٦٨﴾
69. (Adeba) tun-tun gi berimen magea ayat-ayat keme ngen adeba udi boi tun-tun gi semreak direi. الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾
70. Masuk ba udi lem surgo, ngen perpuan-perpuan udi di neloak riyang. أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾
71. Gi nelie magea let o piagan-piagan kunai mas piala-piala ngen nak lem surgo o dapat kete-kete jano gi lak lem atie ngen baik (gi ken leak matei ngen udi kekal nak lem ne). يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾
72. Do oba sergo di tewinoa udi kerno amal-amal gi bi i udi ikemerjo. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾
73. Nak lem surgo o ade boak-boak gi deu utuk gi pao ne udi mbuk. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾
74. Sebenane tun-tun gi mduso kekal nak lem azab nerako jahannam. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾
75. Coa gi kenlak azab o kunai dan udi nak cemne keciwo. لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾
76. Ngen coa keme menganiayo udi ba gi menganiayo direi udi dewek. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

77. Udi bkinai “hoi Malik mai ba Tuhan nu monoak keme bae” si jemawab udi tetap tinga nak nrako. وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِينُونَ ﴿٧٧﴾
78. Sebeneane keme benea-benea sudo mbin kebenga magea udi tapi deu antaro udi coa tujeu magea kebenaran o. لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٨﴾
79. Bahkan udi sudo temtep dlai tipeu dayo (jahat) mako sebeneane keme lak males tipeu dayo udi. أَمْ أَتَرْمُونَ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾
80. Bene udi kemiro, bahwo keme coa temengo resyo ngen bisi-bisik udi, sebeneane keme temongoa ngen utusan-utusan, malaikat-malaikat keme trus mcatet nak sisi udi. أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۗ بَلَىٰ ۚ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾
81. Kadeak ba”kalaeu Tuhan maha pemuek temuan anak mako uku ba (Muhammad) tun gi pertama memuliakan anak gen nak o. قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ﴿٨١﴾
82. Maho suci Tuhan gi empune lenget dan bumei, Tuhan gi emupune aras kunai jano gi udi sipet neo. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾
83. Mako may ba udi tendem nak cem ngen bemain sapi udi temeu bilei gi jewanye magea udi. فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾
84. Ngen si ba Tuhan gin sembeak nak lenget ngen Tuhan gi senembeak nak bumei dan siba gi Maha bijaksana dan maha namen وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُهُ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾
85. Ngen maha sucei Tuhan gi temuan rajo lenget ngen bumei ngen jano gi ade nak antaro keduei ne, ngen nak sisi neba ilmeu tentang bileikiamat ngen magea sibaudi belek. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾
86. Ngen semeak-semeak gi udi semeak seleyen Allah coa dapat milei safaat, gi وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ

dipe tun dapat melei safaat ade ba tun gi mengakeu gi hak tauhid ngen udi menyakinine.

الْشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

87. Ngen sebeneane kaleu udi betanye magea let o, api bagi menea let o niscayo mako let o menjawab “Allah mako awei ipe ba let o dapet meleak kunai sembeak Allah.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى

يُؤَفِّكُونَ ﴿٨٧﴾

88. Ngen Allah namen nadeak Muhammad,” oi Tuhan ku sebeneane let o ade ba kaum gi coa berimen.

وَقِيلَهُ يَرْبِ إِن هَتُّؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

89. Mako belek ba oi Muhammad kunai let o ngen kadeak ba salam (selambat tinga) be let o cak namen nasib let o gi kidek.

فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾